

Ijtema Syllabus 2017

All Nasirat should attend local, regional and national Ijtema wearing the correct uniform which is white modest clothing (shalwar kameez, long shirt with trouser/long skirt etc.) and a head scarf in the colour allocated to their region. At national level, marks are deducted for incorrect uniform worn by participants. This may also be done at local and regional levels, but must be announced prior to the event.

TILAWAT-E-QUR'AN

Tilawat-e-Qura'n does NOT need to be memorised Marks will be awarded for correct pronunciation, punctuation and melody.

Salihaat (7-9)	Qanitaat (10-12)	Mohsinaat (13-14)
Surah Al-Ma'idah Chapter 5: Verse 56	Surah Al-Jumu'ah Chapter 62: Verse 3	Surah Aal-e-'Imran Chapter 3: Verses 27-29

Reference: Translation by Maulvi Sher Ali (ra)

Salihaat (7-9)

Surah Al-Ma'idah Chapter 5: Verse 56

Your friend is only Allah and His Messenger and the believers who observe Prayer and pay the Zakat and worship God alone.

یقیناً تمہارا دوست اللہ ہی ہے اور اس کا رسول اور وہ لوگ جو ایمان لائے جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہ (خدا کے حضور) جھکے رہنے والے ہیں۔

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا
الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ
وَهُمْ رَاكِعُونَ ﴿٥٦﴾

Qanitaat (10-12)

Surah Al-Jumu'ah Chapter 62: Verse 3

He it is Who has raised among the Unlettered people a Messenger from among themselves who recites unto them His Signs, and purifies them, and teaches them the Book and wisdom, although they had been, before, in manifest misguidance;

وہی ہے جس نے اُمی لوگوں میں انہی میں سے ایک عظیم رسول مبعوث کیا۔ وہ ان پر اس کی آیات کی تلاوت کرتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے جبکہ اس سے پہلے

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ
يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ
الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ
لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٣﴾

وہ یقیناً کھلی کھلی گمراہی میں تھے۔

Mohsinaat (13-14) (Each Nasira should be tested on some of the following extract)

Surah Aal-e-Imran Chapter 3: Verses 27-29

Say, 'O Allah, Lord of sovereignty, Thou givest sovereignty to whomsoever Thou pleasest; and Thou takest away sovereignty from whomsoever Thou pleasest. Thou exaltest whomsoever Thou pleasest and Thou abasest whomsoever Thou pleasest. In Thy hand is all good. Thou surely hast power to do all things.

'Thou makest the night pass into the day and makest the day pass into the night. And Thou bringest forth the living from the dead and bringest forth the dead from the living. And Thou givest to whomsoever Thou pleasest without measure.'

Let not the believers take disbelievers for friends in preference to believers — and whoever does that has no connection with Allah — except that you cautiously guard against them. And Allah cautions you against His punishment; and to Allah is the returning.

تُو کہہ دے اے میرے اللہ! سلطنت کے [3:27]
مالک! تُو جسے چاہے فرمانروائی عطا کرتا
ہے اور جس سے چاہے فرمانروائی چھین لیتا
ہے۔ اور تُو جسے چاہے عزت بخشتا ہے اور
جسے چاہے ذلیل کر دیتا ہے۔ خیر تیرے ہی
باتھ میں ہے۔ یقیناً تُو ہر چیز پر جسے تُو چاہے
دائمی قدرت رکھتا ہے۔

تُو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور [3:28]
دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ اور تُو مُردہ
سے زندہ نکالتا ہے اور زندہ سے مُردہ نکالتا
ہے۔ اور تُو جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے
رزق عطا کرتا ہے۔

مومن، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں [3:29]
کو دوست نہ پکڑیں۔ اور جو کوئی ایسا کرے
گا تو وہ اللہ سے بالکل کوئی تعلق نہیں رکھتا۔
سوائے اس کے کہ تم ان سے پوری طرح
محتاط رہو۔ اور اللہ تمہیں اپنے آپ سے خریدار
کرتا ہے۔ اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا
ہے۔

قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمَلِكَ مَنْ
تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمَلِكَ مِمَّنْ تَشَاءُ
وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ
الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٧﴾

تُو لِيَجِ الْيَلَّ فِي النَّهَارِ وَتُو لِيَجِ النَّهَارِ فِي
الْيَلِّ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ
وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ
تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢٨﴾

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكُفْرِينَ أَوْلِيَاءَ
مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ
فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا
مِنْهُمْ تَقِيَةً وَيُحَذِّرْكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ ط

وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿٢٩﴾

HIFZ –E-QUR’AN

Masha’Allah, due to the growing number of our Nasirat, Hifz-e-Qur’an must now be tested at local level and prizes given out at regional level.

The Judges for this competition must be approved by the local Sadr, and should be chosen on her correct recitation of the Holy Qur’an, and she must neither be too strict, nor too lenient. If more than one judge is required, then they should all work on the same set criteria so that all Nasirat are judged fairly. It is also permitted to invite judges from neighbouring Majalis if that is deemed more suitable by the Sadr.

Salihaat (7-9)	Qanitaat (10-12)	Mohsinaat (13-14)
Surah Al-Fatiha with Translation (English/Urdu)	Surah Al-Fatiha with Translation (English/Urdu)	Surah Al-Fatiha with Translation (English/Urdu)
Last 7 Surahs of the Holy Qur’an	Last 10 Surahs of the Holy Qur’an	Last 13 Surahs of the Holy Qur’an
Surah Al-Baqarah Chapter 2 : Verses 1-5	Surah Al-Baqarah Chapter 2 : Verses 1-7	Surah Al-Baqarah Chapter 2 : Verses 1-10
<p style="text-align: center;">Qur’anic prayer Chapter 3: Verse 9</p> <p style="text-align: center;">رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ﴿٩﴾</p> <p>Our Lord, let not our hearts become perverse after Thou hast guided us; and bestow on us mercy from Thyself; surely, Thou alone art the Bestower.</p> <p>اے ہمارے رب! ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ ہونے دے بعد اس کے کہ تو ہمیں ہدایت دے چکا ہو۔ اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا کر۔ یقیناً تو ہی بے جو بہت عطا کرنے والا ہے۔</p>	<p style="text-align: center;">Qur’anic Prayer Chapter 26: Verses 84-85</p> <p style="text-align: center;">رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَالْحَقِّقِي بِالصَّالِحِينَ ﴿٨٤﴾ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ ﴿٨٥﴾</p> <p>My Lord, bestow wisdom on me and join me with the righteous; And give me a true reputation among posterity;</p> <p>اے میرے رب! مجھے حکمت عطا کر اور مجھے نیک لوگوں میں شامل کر۔ اور میرے لئے آخرین میں سچ کہنے والی زبان مقدر کر دے۔</p>	<p style="text-align: center;">Qur’anic Prayer Chapter 3: Verse 194</p> <p style="text-align: center;">رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَقَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ ﴿١٩٤﴾</p> <p>Our Lord, we have heard a Crier calling us unto faith, ‘Believe ye in your Lord,’ and we have believed. Our Lord, forgive us, therefore, our errors and remove from us our evils, and in death number us with the righteous.</p> <p>اے ہمارے رب! یقیناً ہم نے ایک منادی کرنے والے کو سنا جو ایمان کی منادی کر رہا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ۔ پس ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب! پس ہمارے گناہ بخش دے اور ہم سے ہماری برائیاں دور کر دے اور ہمیں نیکوں کے ساتھ موت دے۔</p>

ENGLISH & URDU SPEECH COMPETITIONS

Nasirat must research and write their speeches themselves.
All speeches MUST be memorised at regional and national levels.

Topic عناوین	Salihaat (7-9) 2 minutes	Qanitaat (10-12) 2 minutes	Mohsinaat (13-14) 3 minutes
Attributes of Allah صفاتِ باری تعالیٰ	الرَّحْمَنُ Ar-Rahman The Gracious بے انتہا رحم کرنے والا	الْمُجِيبُ Al-Mujeeb The Responsive One دعا قبول کرنے والا	الشَّافِي Ash-Shafi The Healer شفا دینے والا
Inspirational personalities اہم شخصیات	Hazrat Uthman Ghani ^{ra} حضرت عثمان غنیؓ	Hazrat Khalifatul Massih I ^{ra} – An exemplary companion حضرت خلیفۃ المسیح الاولیٰ مثالی صحابی	Hazrat Chaudhry Muhammad Zafrullah Khan ^{ra} – Giving precedence to faith over worldly matters حضرت چودھری محمد ظفر اللہ خانؓ دین کو دنیا پر مقدم کرنے والے
Conditions of Bai'at شرائطِ بیعت	No.3-Five daily prayers تیسری شرط - پنجگانہ نماز کا التزام	No.5 - Remaining faithful to God in all circumstances پانچویں شرط اللہ تعالیٰ سے ہر حال میں وفاداری کرنا	No.7 - Giving up of pride and vanity ساتویں شرط تکبر اور نخوت کو ہٹا کر چھوڑنا
Schemes تحریکات	Nasirat-ul-Ahmadiyya ناصرات الاحمدیہ	Tehrik-e-Jadid تحریک جدید	Waqf-e-Nau Scheme تحریک وقف نو
Female role models قابل تقلید خواتین	Hazrat Safiyah ^{ra} حضرت صفیہؓ	Hazrat Khadija ^{ra} حضرت خدیجہؓ	Hazrat Ayesha ^{ra} حضرت عائشہؓ
Social issues سماجی مسائل	Ways in which I can be serve humanity خدمتِ خلق کے ذرائع	How I use modern technology to spread the message of Islam? نئی ایجادات کو میں کس طرح تبلیغ اسلام کے لئے استعمال کر سکتی ہوں؟	How the veil inspires me with confidence in my day-to-day life پردہ کس طرح روز مرہ کے معمول میں خود اعتمادی پیدا کرتا ہے؟

NAZM

All Nazms are to be memorised. Repetition of verses is not permitted.

Salihaat (7-9)	Qanitaat (10-12)	Mohsinaat (13-14)
Qaseeda – Verses 1,2 & 3 يَا عَيْنَ قَيْضِ اللَّهِ وَالْعِرْقَانِ يَسْغِي إِلَيْكَ الْخَلْقُ كَالظَّمَانِ يَا بَحْرَ قُضَيْلِ الْمُنْعِمِ الْمَتَانِ تَهْوِي إِلَيْكَ الرُّمْرُ بِا لِكَيْدَانِ يَا شَمْسَ مَلِكِ الْحُسْنِ وَالْإِحْسَانِ تَوَرَّتْ وَجْهَ الْبَرِّ وَالْعُمَرَانِ	Qaseeda – Verses 7, 8 & 9 يَا مَنْ عَدَا فِي نُورِهِ وَضِيَائِهِ كَالْتَيْرِينَ وَتَوَرَّ الْمَلَوَانِ يَا بَدْرَنَا يَا آيَةَ الرَّحْمَنِ أَهْدَى الْهَدَاةَ وَأَشْجَعَ الشَّجَعَانَ إِنِّي أَرَى فِي وَجْهِكَ الْمُتَهَلِّلِ شَأْنًا يَفُوقُ شَمَائِلَ الْإِنْسَانِ	Qaseeda – Verses 45, 46 & 47 لَا شَاكَ أَنْ مُحَمَّدًا خَيْرُ الْوَرَى رَيْقُ الْكِرَامِ وَنُحْبَةُ الْأَعْيَانِ تَمَّتْ عَلَيْهِ صَفَاتُ كُلِّ مَرْيَةِ عُتِمَتْ بِهِ نَعْمَاءُ كُلِّ رَمَانِ وَاللَّهُ إِنَّ مُحَمَّدًا كَرِ دَاقَةِ وَبِهِ الْوُضُوءُ بِسُدَّةِ السُّطَّانِ
درثمین خدا سے وہی لوگ کرتے ہیں پیار جو سب کُچھ ہی کرتے ہیں اُس پر نثار اسی فکر میں رہتے ہیں روز و شب کہ راضی وہ دلدار ہوتا ہے کب؟ اُسے دے چکے مال و جاں بار بار ابھی خوف دل میں کہ ہیں نا بِکار	درثمین اسلام سے نہ بھاگو راہ ہدیٰ یہی اے سونے والو! جاگو شمس الضحیٰ یہی ہے مُچھ کو قسم خدا کی جس نے ہمیں بنایا اب آسمان کے نیچے دین خدا یہی ہے وہ دِلستانِ نہاں ہے کس رہ سے اُس کو دیکھیں ان مُشکلوں کا یارو! مُشکلِ کُشا یہی ہے	درثمین ہر طرف فکر کو دوڑا کے تھکایا ہم نے کوئی دین محمدؐ سانہ پایا ہم نے کوئی مزب نہیں ایسا کہ نِشاں دیکھلاوے یہ نَمَرِ باغِ مُحَمَّدؐ سے ہی کھایا ہم نے ہم نے اسلام کو خود تجربہ کر کے دیکھا نور ہے نور، اُٹھو دیکھو سُنایا ہم نے
کلام محمُود میں اپنے پیاروں کی نسبت ہرگز نہ کروں گا پسند کبھی وہ چھوٹے درجہ پہ راضی ہوں اور ان کی نگاہ رہے نیچی وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر شیروں کی طرح غرّاتے ہوں	دُرْعَدِن مولا مرے قدیر مرے کبریا مرے پیارے مرے حبیب مرے دلربا مرے بار گنہ بلا ہے مرے سر سے ٹال دو جس رہ سے تم ملو مجھے اس رہ پہ ڈال دو اک نور خاص میرے دل و جاں کو بخش دو میرے گناہ ظاہر و پنہاں کو بخش دو	دُرْعَدِن رکھ پیش نظر وہ وقت بہن! جب زندہ گاڑی جاتی تھی گھر کی دیواریں روتی تھیں، جب دنیا میں تو آتی تھی جب باپ کی جھوٹی غیرت کا، خوں جوش میں آنے لگتا تھا جس طرح جنا ہے سانپ کوئی، یوں ماں تیری گھبراتی تھی --- وہ رحمت عالم آتا ہے، تیرا حامی ہو جاتا ہے تو بھی انساں کہلاتی ہے، سب حق تیرے دلواتا ہے

NAZM TRANSLATIONS

Salihaat (7-9)	Qanitaat (10-12)	Mohsinaat (13-14)
<p style="text-align: center;">Qaseeda – Verses 1, 2 & 3</p> <p>O (you who are) the Fountain of Allah's munificence, and perfect understanding of Allah, people rush towards you, thirstily.</p> <p>O (you who are) the Ocean of God's grace - Who is the Bestower of Favours, exceedingly Beneficent, hordes of (thirsty) people hurry towards you holding their bowls (in hand).</p> <p>O (you who are) the Sun of the (spiritual) Kingdom of Beauty and Grace! You have (spiritually) illuminated (the inhabitants of) the deserts as well as the cities.</p>	<p style="text-align: center;">Qaseeda – Verses 7, 8 & 9</p> <p>O you whose Divine Light and luminescence has rendered him like the twin luminaries - the Sun and the Moon - lighting up day as well as night.</p> <p>O our Full Moon, O Sign of the Gracious God! O (you who are) the Greatest (spiritual) Guide, the Bravest among the brave.</p> <p>I certainly see such glory in your sparkling face, Which transcends all (known) human attributes.</p>	<p style="text-align: center;">Qaseeda – Verses 45, 46 & 47</p> <p>No doubt, it is Muhammad^{sa} who is the best of all creation; he is the essence (and vital force) of the elect of God.</p> <p>All (noble) qualities (pertaining to) every kind of superiority, have reached perfection in him; and (also) the (spiritual) bounties for all times have reached their climax in him (and Allah will now grant these only to those who truly follow Him).</p> <p>By God! (the Holy Prophet) Muhammad^{sa} is certainly like the Prime Minister (in his spiritual relation to Almighty God) and it is through him (alone) that there can be access (for anyone) to the threshold of the King (Almighty God).</p>
<p style="text-align: center;">Durre-Sameen</p> <p>Only those really love God, who are ever ready to sacrifice all at His altar.</p> <p>The only worry they have every day and every night, is how to please their Beloved Lord</p> <p>Time and time again, they give up their lives and wealth unto Him</p>	<p style="text-align: center;">Durre-Sameen</p> <p>Do not flee from Islam, for this is the path of guidance.</p> <p>Awaken, O sleeping ones! This is the brightest sun</p> <p>I swear by the God Who created us, That this is now the only divine religion under the sky</p> <p>That loved one is hidden, from where should we seek Him?</p> <p>Only Islam can resolve these difficulties</p>	<p style="text-align: center;">Durre-Sameen</p> <p>I deliberated in all directions until my thinking became exhausted, no religion could I find like the religion of Muhammad^{sa}</p> <p>There is no religion that shows such a sign, this fruit we eat only from the orchard of Muhammad^{sa}</p> <p>I have personally tried and tested Islam, "It is nothing but light, wake up and see" we have proclaimed</p>
<p style="text-align: center;">Kalam-e-Mehmood</p> <p>Never shall I approve of those I love to remain content with the small things in life with their sights always aiming low.</p> <p>Those who snarl growl like beasts at petty little things, foaming and frothing at the mouth at the slightest provocation.</p>	<p style="text-align: center;">Durr-e-Adan</p> <p>My Lord, my Master, my Omnipotent Sovereign, My Dearest, my Beloved, my Cherished One</p> <p>The burden of my sin feels heavy, alleviate it, please</p> <p>The path that leads to You, place me onto that path</p> <p>Let my heart and my soul shine with a special light</p> <p>Pray forgive me all my sins, both apparent and hidden</p>	<p style="text-align: center;">Durr-e-Adan</p> <p>Remember the time, O sister when you used to be buried alive, the walls of your home wailed, whenever you came into the world</p> <p>When the blood of your father's false pride used to boil, 'twas as if your mother have given birth to a snake, so panic-stricken was she</p> <p>The 'Mercy of the world' arrives and he becomes you champion, you too, are considered human, he grants to you all of your rights</p>